

# میں تیار ہوں! ایمرجنسی ورژن\*

تعارف: ہنگامی صورتحال کسی بھی وقت اور بغیر اطلاع کے ہو سکتی ہے۔ آپ کے گھر کے ہر فرد کی انفرادی ضروریات ہو سکتی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہنگامی صورت حال کے لیے مناسب طریقے سے تیار رہیں۔ اس بارے میں سوچیں کہ عمر، معذوری، جنس، صحت کی حالت، زبان کی ضروریات وغیرہ جیسی چیزیں لوگوں کو ہنگامی حالات سے نمٹنے اور ان کے لیے تیار رہنے میں کس طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ لوگوں کے لیے مختلف تیاریوں اور ردعمل کی ضروریات کو ظاہر کرنے کے لیے 4 مختلف خطرات کے مناظر بنائیں۔

## تباہی کا خطرہ کم کرنے کی سرگرمیاں

### درکار وقت

1 گھنٹہ

### دشواری کی سطح

آسان- میڈیم

### درکار وسائل

پوسٹر بورڈ، مارکرز، قلم

[Pils Web](#) یہ سرگرمی\*

سے [Limitless Project](#)

منسلک سیکھنے کے

تسلسل کے طور پر بنائی

گئی تھی

## مرحلہ نمبر 1

ممکنہ ہنگامی حالات سے دوچار لوگوں کے لیے 4 مختلف خطرات کے مناظر بنائیں۔

- ایسے ہنگامی حالات کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں جو روزمرہ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ ساحل، پہاڑ، شہر، اسکول وغیرہ پر کس قسم کے خطرات ہو سکتے ہیں؟
- مختلف ضروریات کے حامل کرداروں کو شامل کریں:
  - جیسا کہ مختلف نسلی گروہ، عمر، جنس، معذوری وغیرہ۔
- سوچیں کہ خطرات کے مختلف منظر ناموں میں کن وسائل کی ضرورت ہوگی۔

## مرحلہ نمبر 2

لوگوں کے نقطہ نظر سے ان کی انفرادی ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر منظر میں اسپیش بلبلز یا بلبلز شامل کریں۔ سوچیں:

- کیا ہوا؟
- مجھے کیا چاہیئے؟
- میں کیا کروں؟

